



22110327



International Baccalaureate®
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

URDU A1 – STANDARD LEVEL – PAPER 1
OURDOU A1 – NIVEAU MOYEN – ÉPREUVE 1
URDU A1 – NIVEL MEDIO – PRUEBA 1

Wednesday 11 May 2011 (morning)

Mercredi 11 mai 2011 (matin)

Miércoles 11 de mayo de 2011 (mañana)

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a commentary on one passage only. It is not compulsory for you to respond directly to the guiding questions provided. However, you may use them if you wish.

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N'ouvrez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Rédigez un commentaire sur un seul des passages. Le commentaire ne doit pas nécessairement répondre aux questions d'orientation fournies. Vous pouvez toutefois les utiliser si vous le désirez.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario sobre un solo fragmento. No es obligatorio responder directamente a las preguntas que se ofrecen a modo de guía. Sin embargo, puede usarlas si lo desea.

ذیل میں دینے گئے اقتباس اور غزل میں سے کسی ایک کی تشریح کیجیے۔

.1

الیاسف اپنے تین آدمیت کا جزیرہ جانتا تھا۔ گھرے پانیوں کے خلاف مدافعت کرنے لگا۔ اس نے اپنے گرد پشتہ بنا لیا کہ محبت اور نفرت۔ غصہ اور بمدردی۔ غم اور خوشی اس پر یلغاز نہ کریں کہ جذبے کی کوئی رو اسے بہا کرنے لے جائے اور الیاسف اپنے جذبات سے خوف کرنے لگا۔ پھر جب وہ پشتہ تیار کر چکا تو اسے یوں لگا کہ اس کے سینے کے اندر پتھری پڑ گئی ہے۔ اس نے فکر مند ہو کر کہا کہ اے معبد میں اندر سے بدل رہا ہوں تب اس نے اپنے باہر پر نظر کی اور اسے گمان ہونے لگا کہ وہ پتھری پھیل کر باہر آ رہی ہے کہ اس کے اعضاء خشک، اس کی جلد بد رنگ اور اس کا لہو بے رس ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے مزید اپنے آپ پر غور کیا اور اسے مزید وسوسوں نے گھیرا۔ اسے لگا کہ اس کا بدن بالوں سے ڈھکتا جا رہا ہے۔ اور بال بد رنگ اور سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے اپنے بدن سے خوف آیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ خوف سے وہ اپنے اندر سمٹنے لگا۔ اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ٹانگیں اور بازو مختصر اور سر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے تب اسے مزید خوف ہوا اور اعضاء اس کے خوف سے مزید سکڑنے لگے اور اس نے سوچا کہ کیا میں بالکل معدوم ہو جاؤں گا۔

اور الیاسف نے الیاب کو یاد کیا کہ خوف سے اپنے اندر سمت کر وہ بندر بن گیا تھا۔ تب اس نے کہا کہ میں اندر کے خوف پر اسی طور غلبہ پاؤں گا جس طور میں نے باہر کے خوف پر غلبہ پایا تھا اور الیاسف نے اندر کے خوف پر غلبہ پا لیا۔ اور اس کے سمٹنے بونے اعضاء دوبارہ کھلنے اور پھیلنے لگے۔ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے۔ اور اس کی انگلیاں لمبی اور بال بڑے اور کھڑے ہونے لگے۔ اور اس کی بٹھیلیاں اور تلوے چیٹے اور لجلجے ہو گئے اور اس کے جوڑ کھلنے لگے اور الیاسف کو گمان ہوا کہ اس کے سارے اعضاء بکھر جائیں گے تب اس نے عزم کر کے اپنے دانتوں کو بھینچا اور مٹھیاں کس کر باندھیں اور اپنے آپ کو اکٹھا کرنے لگا۔

الیاسف نے اپنے بد بیٹت اعضا کی تاب نہ لا کر آنکھیں بند کر لیں اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کیں تو اسے لگا کہ اس کے اعضاء کی صورت بدلنی جا رہی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں میں نہیں رہا۔ اس خیال سے دل اس کا ڈھپنے لگا۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھولی اور چیکے سے اپنے اعضاء پر نظر کی۔ اسے ڈھارس ہوئی کہ اس کے اعضاء تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اس نے دلبری سے آنکھیں کھولیں اور اطمینان سے اپنے بدن کو دیکھا اور کہا کہ بے شک میں اپنی جون میں ہوں مگر اس کے بعد آپ بی آپ اسے پھر وسوسہ ہوا کہ جیسے اس کے اعضاء بگڑتے جا رہے ہیں اور اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔

الیاسف نے آنکھیں بند کر لیں اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کیں تو اس کا دھیان اندر کی طرف گیا اور اس نے جانا کہ وہ کسی اندر ہیرے کنوں میں دھنستا جا رہا ہے اور کنوں میں دھنستے ہوئے ہم جنسوں کی پرانی صورتوں نے اس کا تعاقب کیا۔ اور گزری راتیں محاصرہ کرنے لگیں۔ الیاسف کو سبت کے دن ہم جنسوں کا مجھلیوں کا شکار کرنا یاد آیا کہ ان کے باتھوں مجھلیوں سے بھر اسمندر مجھلیوں سے خالی ہونے لگا۔ اور ان کی ہوں بڑھتی گئی اور انہوں نے سبت کے دن بھی مجھلیوں کا شکار شروع کر دیا۔ تب اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مجھلیوں کے شکار سے منع کرتا تھا کہا کہ رب کی سو گند جس نے سمندر کو گھرے پانیوں والا بنایا اور گھرے پانیوں کی مجھلیوں کا مامن ٹھہرا یا سمندر تمہارے دستِ بوس سے پناہ مانگتا ہے اور سبت کے دن مجھلیوں پر ظلم کرنے سے باز رہو کہ مبادا تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے قرار پاؤ۔

الیاسف نے کہا کہ معبد کی سوگند میں سبت کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرو نگا اور الیاسف عقل کا پتلا تھا۔ سمندر سے فاصلے پر ایک گڑھا کھودا اور نالی کھود کر اسے سمندر سے ملا دیا اور سبت کے دن چھلیاں سطح آب پر آئیں تو تیرتی بھئی نالی کی راہ گڑھے پر نکل گئیں۔ اور سبت کے دوسرا دن الیاسف نے اس گڑھے سے بہت سی مچھلیاں پکڑیں۔ وہ شخص جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر بولا کہ تحقیق جس نے اللہ سے مکر کیا اللہ اس سے مکر کرے گا۔ اور بے شک اللہ زیادہ بڑا مکر کرنے والا ہے اور الیاسف یہ یاد کر کے پچھتا یا اور وسوسہ کیا کہ کیا وہ مکر میں گھر گیا ہے۔ اس گھڑی اسے اپنی پوری ہستی ایک مکر نظر آئی۔ تب وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑایا کہ پیدا کرنے والے نے توجہ ایسا پیدا کیا جیسے پیدا کرنے کا حق ہے۔ تو نے مجھے بہترین کینڈے پر خلق کیا۔ اور اپنی مثال پر بنایا۔ پس اے پیدا کرنے والے تو اب مجھے مکر کرے گا اور مجھے ذلیل بندر کے اسلوب پر ڈھالے گا اور الیاسف اپنے حال پر ررویا۔ اس کے بنائے پشت میں دراڑ پڑ گئی تھی اور سمندر کا پانی جزیرے میں آ رہا تھا۔

الیاسف اپنے حال پر رویا اور بندروں سے بھری ہستی سے منہ موڑ کر جنگل کی سمت نکل گیا کہ اب ہستی اسے جنگل سے زیادہ وحشت بھری نظر آتی تھی۔ اور دیواروں اور چھتوں والا گھر اس کے لئے لفظ کی طرح معنی کھو بیٹھا تھا۔ رات اس نے درخت کی ٹہنیوں پر چھپ کر بسر کی۔

جب صبح کو وہ جاگا تو اس کا سارا بدن دکھتا تھا اور ریڑھ کی بڈی درد کرتی تھی۔ اس نے اپنے بگڑے اعضاء پر نظر کی کہ اس وقت کچھ زیادہ بگڑے بگڑے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ٹرتے ٹرتے سوچا کیا میں میں بھی بون اور اس آن اسے خیال آیا کہ کاش ہستی میں کوئی ایک انسان بوتا کہ اسے بنا سکتا کہ وہ کس جوں میں ہے اور یہ خیال آنے پر اس نے اپنے تئیں سوال کیا کہ کیا آدمی بنے رہے کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ آدمیوں کے درمیان بو۔ پھر اس نے خود بی جواب دیا کہ بیشک آدم اپنے تئیں ادھورا ہے کہ آدمی آدمی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اور جو جن میں سے ہے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

انتظار حسین، اردو ادب کے مشہور افسانے سے لیا گیا افسانہ: آخری آدمی (2006)

- اس اقتباس کے مرکزی خیال کی پیشکش میں مصنف نے جس طرح زبان کا استعمال کیا ہے اس پر روشنی ڈالیے۔
- اس تحریر میں مرکزی کردار کی الفاظ میں نقشہ کشی کیسے کی گئی ہے؟
- آپ ان ادبی تکنیکیات کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جو مصنف قارئین کا رد عمل سامنے لانے کے لیے استعمال کرتا ہے؟ اقتباس کے حوالے سے بتائیے۔

رنگ دکھلاتی ہے کیا کیا عمر کی رفتار بھی
 بال چاندی ہو گئے سونا ہوئے رخسار بھی
 درد کے جھونکوں نے اب کے دل بی ٹھنڈا کر دیا
 آگ برساتا تھا آگے دیدہ خونبار بھی
 بیٹھے بیٹھے جانے کیوں بیتاب ہو جاتا ہے دل 5
 پوچھتے کیا ہو میاں اچھا بھی ہوں بیمار بھی
 شوقِ آزادی لیے جاتا ہے عالم سے پرے
 روکتی ہے ہر قدم آواز پائے یار بھی
 سادگی سے تم نہ سمجھے ترک دنیا کا سبب
 ورنہ وہ درویش تھے پردے میں دنیادار بھی 10
 کس طرح گزرے گا ناصر فرصت پستی کا دن
 جم گیا دیوار بن کر سایہ دیوار بھی

ناصر کاظمی، انتخابِ ناصر کاظمی (2002–2009)

- جس طرح زبان کا استعمال، اس غزل کے ابھ م موضوعات کی پیشکش میں کیا گیا ہے اس پر اظہارِ خیال کیجئے۔
 - اس غزل کے مزاج کی نقشہ کشی کے لیے شاعر نے کونسے ادبی طریقے استعمال کیے ہیں؟
 - اس شاعری کی زبان پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔
-